

Press Release
March 9, 2017
For immediate release

Investor Awareness: SECP organizes awareness seminar for employees of SDPI

ISLAMABAD, March 9: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), under its flagship investor awareness program 'Jamapunji' conducted a seminar on mutual funds and voluntary pension system (VPS) for the employees of the Sustainable Development Policy Institute (SDPI).

Senior SECP officers led the interactive session with participation from industry experts. They elaborated on the rights of investors, potential benefits of investing in mutual funds and VPS through qualified fund managers, the role of trustees and highlighted the risks involved for the investor when opting for available mutual funds and VPS investment options.

The SECP's senior officers answered participants' questions. They also explained the regulations governing mutual funds and VPS and how the SECP has contributed to advancement of the financial sector through supporting innovative product development while taking necessary measures to better safeguard interests of the investors.

Giving product background, differences between conventional government pension schemes and VPS were explained. Similarly, differences between Sharia-compliant funds and conventional funds, withdrawal conditions and risk profile switch options during the life of the product were discussed. In addition to providing clarity on fee structures and the importance of monitoring net asset value (NAV) through periodic account statements and the SMS service provided by fund managers, post-retirement income features and potential tax benefits were also explained.

Deputy Executive Directors, Senior Research Fellows and other senior SDPI employees attended the session. Some of the SDPI employees who were already participating in mutual funds made the session even more lively by explaining availed benefits to raise the interest of others attending the session. The SECP welcomed the valuable suggestions of participants. The SDPI thanked the SECP for the informative session hoping to schedule follow-up sessions for its employees in weeks to come.

ایس ای سی پی کا سرمایہ کاری کے اصولوں سے آگہی کے لئے سیمینار

اسلام آباد (۹ مارچ) سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے انوسٹریجو کیشن پروگرام جمع پونجی کے تحت ڈویلپمنٹ کے دارے ایس ڈی پی آئی کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کے اصولوں سے آگہی کے لئے سیمینار منعقد کیا۔ سیمینار میں شرکاء کو مالیات اور سرمایہ کاری سے متعلق فیصلہ سازی میں سودمند معلومات کے بارے میں آگاہی دی گئی۔

سیمینار میں شرکاء کو سرمایہ کاری کے لئے موجود مواقع جیسے کہ میوچل فنڈز، رضاکارانہ پنشن سکیم کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ ایس ای سی پی کے حکام نے شرکاء کو سرمایہ کاروں کے حقوق، میوچل فنڈز اور پنشن سکیموں میں سرمایہ کاری کے فوائد، ان سکیموں کے فنڈ مینجرز اور ٹرسٹی کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا۔ اس دوران میوچل فنڈز اور پنشن فنڈز میں سرمایہ کاری کی مدت کے دوران سرمائے کو نکالنے کی شرائط، سرمائے کو ایک فنڈ سے دوسرے میں منتقل کرنے اور سرمایہ کاری سے جڑے رسک پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ، فنڈز میں سرمایہ کاری کی فیس کے اسٹیکر اور فنڈ مینجرز کی جانب سے وقفے وقفے سے جاری ہونے والی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے فنڈ کی نیٹ ایسٹ ویلیو کو جانچنے کے طریقہ کار اور فنڈ مینجرز کی جانب سے ایس ایم ایس سروس کے ذریعے فراہم کی جانے والی معلومات کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا گیا۔

ایس ای سی پی کے حکام نے شرکاء کے مختلف سوالات کے جوابات بھی دئے اور انہیں میوچل فنڈز اور پنشن فنڈز کے ریگولیٹری فریم ورک اور قواعد و ضوابط پر بھی بریفنگ دی۔ ایس ای سی پی کی جانب سے مالیاتی شعبہ میں سرمایہ کاری کے لئے متعارف کروائی جانے والی پراڈکٹس اور سرمایہ کاروں کے مفادات کے تحفظ کے لئے کئے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سیمینار کے شرکاء کو رضاکارانہ پنشن فنڈز اور حکومت کی جانب سے دئے جانے والے روایتی پنشن فنڈز اور شریعہ کمپلائنس فنڈز اور دیگر روایتی فنڈز کے مابین فرق کے بارے میں بھی بتایا گیا۔

سیمینار میں ایس ڈی پی آئی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، سنئیر ریسرچ فیلو اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے میوچل فنڈز اور رضاکارانہ پنشن فنڈز میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اس حوالے سے کئی تجاویز بھی دیں۔